



جویریہ خان 100 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی چوتھی پاکستانی خاتون کرکٹربن گئیں

- اعزاز ہے کہ اپنے 100 ویں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی
قیادت کر رہی تھی، جویریہ خان

لاہور، یکم مارچ 2020ء:

جویریہ خان 100 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی چوتھی پاکستانی خاتون کرکٹربن
گئی ہیں۔ انہیں یہ اعزاز آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2020 کے دوران جنوبی
افریقہ کے خلاف میچ میں حاصل ہوا۔

پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان گروپ بی کا اہم میچ
اتوار کو سڈنی کے شو گراؤنڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ میچ میں جنوبی افریقہ نے 17 رنز سے
کامیابی حاصل کی۔

31 سالہ بیٹر نے میچ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کی۔ بسمہ معروف انجری کے
باعث میگا ایونٹ سے باہر ہو گئی تھیں۔ بسمہ معروف کی جگہ جویریہ خان کو پاکستان
خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت تھمائی گئی۔

2009 میں پاکستان کی جانب سے اپنا پہلی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلنے والی جویریہ
خان تاحال پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دوسری سب سے
زیادہ رنز بنانے والی بیٹر ہیں۔ وہ اس فارمیٹ میں 22 کی اوسط سے اب تک 1826 رنز
بنا چکی ہیں۔

ان کے ٹی ٹونٹی کیریئر میں 8 نصف سنچریاں شامل ہیں تاہم انہیں پاکستان کی جانب
سے خواتین کرکٹ میں سب سے زیادہ، 204، چوکے لگانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔

جویریہ خان نے آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2018 میں پاکستان کی قیادت کی تھی۔
وہ تاحال 11 میچوں میں پاکستان کی قیادت کر چکی ہیں۔

جویریہ خان کے علاوہ بسمہ معروف، ثناء میر اور ندا ڈار کو پاکستان کی جانب سے 100 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بسمہ معروف تاحال 108، ثناء میر 106 اور ندا ڈار 101 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہیں۔

جویریہ خان:

جویریہ خان نے کہا کہ اپنے 100 ویں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی قیادت کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گذشتہ 11 سال سے پاکستان کی جانب سے کرکٹ کھیل رہی ہیں اور یہ لمحات ہمیشہ یادگار رہیں گے۔

جویریہ خان نے جنوبی افریقہ سے شکست پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکوآڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں نے میچ کے دوران بھرپور جان لڑائی مگر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ میچ میں بہتر کھیل پیش کرنے پر جیت کا کریڈیٹ جنوبی افریقی ٹیم کو جاتا ہے جو گروپ بی سے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی پہلی ٹیم ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ خوش ہیں کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے گذشتہ 11 سالوں میں بہت پذیرائی حاصل کی ہے جویریہ خان نے کہا کہ مداحوں کی ایک بڑی تعداد قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے میچز دیکھنے کی مشتاق رہتی ہے اور یہی کھیل کے فروغ کی بڑی وجہ ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk